

Time: 10 Minutes	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 10
6th Month, 1st Week, 3rd Day		Exercise 5.1 Q# (6,7,8)

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. The masses of 40 students at a university are given below: (1x5=5)

ایک یونیورسٹی کے 40 طلباء کے ماس نیچے دیئے گئے ہیں:

153, 144, 164, 138, 152, 135, 150, 168, 140, 135, 126, 132, 144, 148, 138,  
161, 145, 176, 125, 149, 163, 135, 142, 119, 157, 146, 154, 150, 156, 165,  
158, 140, 146, 145, 128, 173, 147, 136, 142, 147.

Find out midpoints and class boundaries after constructing frequency distribution with 6 number.

تعدادی تقسیم کا جدول بنا کر وسطی نقطہ اور جماعتی حدود معلوم کریں جبکہ جماعتوں کی تعداد 6 ہو۔

Q.2. The scores in Science of 45 students are given below: (1x5=5)

سائنس کے 45 طلباء کے نمبر درج ذیل ہیں۔

75, 61, 89, 65, 68, 75, 84, 67, 75, 74, 82, 62, 68, 95, 90, 78, 62, 63, 88, 72,  
76, 66, 93, 78, 73, 82, 79, 75, 88, 94, 73, 77, 60, 69, 93, 74, 71, 68, 59, 60,  
85, 96, 75, 78, 61.

Construct a frequency distribution table with 5 number of classes. Find midpoints and class boundaries.

تعدادی تقسیم کا جدول بنا کر وسطی نقطہ اور جماعتی حدود معلوم کریں جبکہ جماعتوں کی تعداد 5 ہو۔

---



---



---



---



---



---

Time: 10 Minutes	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 10
6th Month, 1st Week, 3rd Day		Exercise 5.1 Q# (6,7,8)

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. The masses of 40 students at a university are given below: (1x5=5)

ایک یونیورسٹی کے 40 طلباء کے ماس نیچے دیئے گئے ہیں:

153, 144, 164, 138, 152, 135, 150, 168, 140, 135, 126, 132, 144, 148, 138,  
161, 145, 176, 125, 149, 163, 135, 142, 119, 157, 146, 154, 150, 156, 165,  
158, 140, 146, 145, 128, 173, 147, 136, 142, 147.

Find out midpoints and class boundaries after constructing frequency distribution with 6 number.

تعدادی تقسیم کا جدول بنا کر وسطی نقطہ اور جماعتی حدود معلوم کریں جبکہ جماعتوں کی تعداد 6 ہو۔

Q.2. The scores in Science of 45 students are given below: (1x5=5)

سائنس کے 45 طلباء کے نمبر درج ذیل ہیں۔

75, 61, 89, 65, 68, 75, 84, 67, 75, 74, 82, 62, 68, 95, 90, 78, 62, 63, 88, 72,  
76, 66, 93, 78, 73, 82, 79, 75, 88, 94, 73, 77, 60, 69, 93, 74, 71, 68, 59, 60,  
85, 96, 75, 78, 61.

Construct a frequency distribution table with 5 number of classes. Find midpoints and class boundaries.

تعدادی تقسیم کا جدول بنا کر وسطی نقطہ اور جماعتی حدود معلوم کریں جبکہ جماعتوں کی تعداد 5 ہو۔

---



---



---



---



---



---